

تمہارے آپ کے لئے یہ کتاب ہے جس میں تمہاری دعاؤں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ جو لوگ گنہگار ہیں ان کے لئے یہ دعا ہے۔ سورہ المؤمن آیت ۲۳

November

IMPORTANT

عربی میں ترجمہ

- ۱۔ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِهْلِ عِيْدِكَ بِعِلْمِ السَّاعَةِ
- ۲۔ يَا سَيِّدِيْ اِنَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَكَ وَعِلْمُ الْكِتٰبِ
- ۳۔ مَا وَدَّ! مَا اسْمُهَا
- ۴۔ اسْمُهَا فَاطِمَةُ
- ۵۔ اِهْلِ هِيَ مَعْلَمَتِكَ
- ۶۔ يَا اَبِي هِيَ اُمِّي

30 قَوْل مَا اُمَّتْ عَالِمَةٌ 19/R. Sani WEDNESDAY

31 يَا سَيِّدِيْ اِهِيَ عَالِمَةٌ وَعَلِيْمَةٌ 20/R. Sani THURSDAY 21/R. Sani FRIDAY

- ۷۔ نَافِعَةٌ هِيَ! هَلْ مَعْلَمَةٌ تَدْرُسُكَ قَاعِدُونَ
- ۸۔ يَا اَبِي! مَا مَعْلَمَةٌ تَدْرُسُكَ قَاعِدُونَ يَا اَبِي! مَا مَعْلَمَةٌ تَدْرُسُكَ قَاعِدُونَ
- ۹۔ اِنَّ اَنْ تَدْرُسُكَ تَدْرُسُكَ لِقَمَّةِ اللّٰهِ الْكَبِيْرَتَانِ
- ۱۰۔ هَلْ تَدْرُسُكَ تَدْرُسُكَ
- ۱۱۔ اِنَّ رَبَّنَا رَبِّيْمُ تَدْرُسُكَ
- ۱۲۔ اَلْمَعْلَمَةُ وَوَدَّ الْمَعْلَمَةَ وَوَدَّهَا قَاعِدُونَ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

1411-12

1991

IMPORTANT

مرتب جاری

CHAPTER - NO - 18

حروف جار (PREPOSITIONS) کی اس

کھوف حروف سے ہیں جو حالت میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے بعد حالتیں آتی ہیں۔

مثال: ایک آف جار ہے جو حالت میں استعمال ہوتی ہے۔
 تو ہم میں المشجرہ (میں) کہیں ہے

مرتب جاری: حروف جار کے سی اس کے بعد

4 24/R. Sani MONDAY

5 25/R. Sani TUESDAY

مثال: میں آف جار ہے جو حالت میں استعمال ہوتی ہے۔
 میں المشجرہ لندا میں المشجرہ مرتب جاری ہے

NOTE: درج ذیل حروف جار کے لئے ہے
 ہستی، ہستی، ہستی، ہستی، ہستی

put in your mind

حروف

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

1411-12

1991

November

IMPORTANT

مستقیب ۱۸
EXERCISE - No 18

اردو میں ترجمہ

۱۔ اللہ نے ناموس سے
 ۲۔ نماز اور نفل اور اللہ سے ملنے میں
 ۳۔ شکر سے دنیا سے کسی بندھے کی دستہ کی طرف
 ۴۔ خدا کا دلوں پر
 ۵۔ غضب سے غضب
 ۶۔ نیکی اور تقویٰ پر
 ۷۔ مسکراہٹ سے مسکراہٹ اقصیٰ کی طرف
 ۸۔ محسن اچھائی سے نیر دیکھے اور سراجی سے دور
 ۹۔ علم حاصل کرنا اور نیر اور عورت نیر فرمیں
 ۱۰۔ بے شک جو کچھ مسلمانوں اور زمین میں ہے اللہ سے ملنے ہے

29/R. Sani SATURDAY

۱۱۔ ان سے دلوں پر اور ان سے کاتوں پر اور ان کی آغوشوں پر
 ۱۲۔ ان سے ملنے دنیا میں رسوائی اور آفت سے نیرا عذاب ہے
 ۱۳۔ وہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے اور ہمارے بچے ہمارے کا
 اور تمہارے بچے تمہارے کا ہے
 ۱۴۔ اور جہنم جہنم سے نیرا ہے
 ۱۵۔ نفیاً صفا اور مردہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے ہے

10 1/J. Awal SUNDAY

عربی میں ترجمہ

۱۔ اِلٰہِ اِلٰہِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ
 ۲۔ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلٰی النُّوْرِ
 ۳۔ نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

1411-12

1991

November

IMPORTANT

۱۔ مَنَ الْبَيْتِ وَالشِّمَالِ
۲۔ اَلْحَسَنَةُ لِلْمُتَّقِينَ

۳۔ اَيُّ رَجُلٍ رَفَعَهُ رَبُّكَ قَرِيْبَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ

۴۔ اَلْحَيْدَةَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

۵۔ اِنَّ السُّلْطَانَ الْكَادِلَ يَطُلُّ اللّٰهَ فَيَاْتُ رَفِيْ

۶۔ اَيُّ رَجُلٍ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا

۷۔ يَدِيْهِ وَيَلِيْ سُوْلِيْ

11 2/J. Awal
MONDAY

۸۔ اَطَاعَةُ اللّٰهِ فِيْ اِطَاعَةِ الرَّسُوْلِ

12 3/J. Awal
TUESDAY

۹۔ اِنَّ اَيُّ رَجُلٍ عَدُوٌّ لِلْعَافِرِيْنَ

۱۰۔ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

۱۱۔ لَكُمْ فِيْ اَلْقِيَامِ مِنْ قَبِيْرَةٍ

۱۲۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

اسے لوگوں کو ایمان لائے۔ یہ شراب اور جہاد اور یہ آستانے اور پائے یہ سب گندے شیطان کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں اللہ صواب ہوگی۔ (سورۃ المائدہ آیت۔ ۹۰۔ پارہ ۷)

November

IMPORTANT

مرب استاری جمع اول CHAPTER - NO - 19

اسماء اشارہ : کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے
ہو اور الفاظ اسماء صوفے میں کہیں استعمال
اشارہ کرتے ہیں
مثال :- ہنہ ارور میں یہ (وہ) اس
رہی ہے۔ **هَذَا هُوَ كَذَلِكَ**

اسماء اشارہ کی اقسام :-
اسماء اشارہ قسم کے صوفے میں

13 4/J. Awal WEDNESDAY
14 5/J. Awal THURSDAY 15 6/J. Awal FRIDAY

اشارہ قریب

| | | |
|-----------|-----------------------|----------|
| جمع | تثنیہ | واحد |
| هَذَا | هَذَانِ (حالت رفع) | هَذَا |
| یہ ہے | یہ ہیں | یہ ہے |
| هَؤُلَاءِ | هَؤُلَئِکَ (حالت نصب) | هَؤُلَکَ |
| یہ ہیں | یہ ہیں | یہ ہے |
| هَؤُلَکَ | هَؤُلَکَ (حالت رفع) | هَؤُلَکَ |
| یہ ہیں | یہ ہیں | یہ ہے |
| هَؤُلَکَ | هَؤُلَکَ (حالت نصب) | هَؤُلَکَ |
| یہ ہیں | یہ ہیں | یہ ہے |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

1411-12

1991

November

IMPORTANT

NOTE 3

عربی میں اشارۃ الیہ عموماً معرف باللہ ہے۔
مثال:- ہذا اللہک ربہ متاب (مبارک) یہ بات یاد رکھو یہ کہ ہذا احمر ہے اور اللہک معرف باللہ ہے اور اشارۃ الیہ معرف باللہ ہے اور اشارۃ الیہ متاب (یہ متاب) لیا متاب (یہ متاب) ان اشارہ کے بعد والد اس اثر

NOTE-4

نذرہ ہے تو تو ایسے رب اشاری میں ہیں جہل اس میں مابنی سے ہذا اشارۃ کا ترجمہ ہو گا

مثال:-

”یہ ایک کتاب ہے“ یہ لہجہ تِلْكَ الطُّفْلَةُ رَبِّ اِسْأَلْہِ ہذا اشارۃ کا ترجمہ ہو گا تو ایسی اور تِلْكَ طُفْلَةُ

18 9/J. Awal MONDAY

19 10/J. Awal TUESDAY

کا ترجمہ ہو گا تو ایسی اور تِلْكَ طُفْلَةُ یہ لہجہ اس میں ہے

15-10-1991

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

1411-12

1991

IMPORTANT

ربِ استیاری (مہینہ)

CHAPTER - NO-20

NOTE-1 - بعض اوقات اس کا معنی ہے کہ
 اسم اشارہ کے بعد آئے اور ان میں اشارہ
 یا ضمیر اسم فاعل ہی بن جائے کوئی رب معواجج

مثال: "الرب مرد گئے ہی بجائے لیسے کہ
 یہ سچا مرد"

مذہب: "هَذَا الرَّجُلُ السَّادِقُ"
 یاں سچا مرد تو نبی ہے اور اس میں اشارہ "یہ"
 کا متباد اسم ہے یاں الرَّجُلُ السَّادِقُ مرہا تو معنی

23 14/J. Awal SATURDAY

24 15/J. Awal SUNDAY

NOTE-2 - اس میں رب تو معنی امر نکرہ معواجج ہے تو
 اب یہ ہذا کا متباد اسم ہے بنی بن سبتا بکم
 نکرہ معنی ہی وہ ہے ہذا ہی ضمیر ہے

مثال: "هَذَا الرَّجُلُ السَّادِقُ"
 اس میں "سَادِقٌ" معواجج ہے تو معنی یہ ہذا ہی ضمیر
 ہے "هَذَا الرَّجُلُ السَّادِقُ" اس میں "سَادِقٌ" معواجج ہے
 "یہ ایک سچا مرد ہے"

NOTE-3 - ہم جانتے ہیں کہ اسم اشارہ ہے لہذا

اسے طلوعی والا اسم مزر یا مرکب تو معنی معواجج
 اگر نکرہ معواجج کہ ضمیر معواجج ہے اور اسم اشارہ
 معواجج معواجج مثلاً "تِلْكَ طِفْلَةٌ" میں "تِلْكَ" معواجج ہے

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

November

IMPORTANT

EXERCISE - No

مشق نمبر ۲

الدو میں ترجمہ

۱۔ یہ آید سیدھا راستہ ہے
 ۲۔ یہ سیدھا راستہ ہے
 ۳۔ یہ راستہ سیدھا ہے
 ۴۔ یہ دو لذتیں ہیں
 ۵۔ یہ دو عمل لذتیں ہیں
 ۶۔ یہ دو لذتیں ہیں
 ۷۔ وہ تباہی فتنی ہیں
 ۸۔ وہ تباہی فتنی ہیں

18/J. Awal
WEDNESDAY

27 28 29
19/J. Awal THURSDAY 20/J. Awal FRIDAY

۱۱۔ وہ تباہی فتنی ہیں
 ۱۲۔ وہ تباہی فتنی ہیں
 ۱۳۔ یہ تباہی فتنی ہیں
 ۱۴۔ یہ تباہی فتنی ہیں
 ۱۵۔ یہ تباہی فتنی ہیں
 ۱۶۔ یہ تباہی فتنی ہیں

عربی میں ترجمہ

۱۔ وَهَذَا رِوَاؤُكَ وَذَلِكَ رِوَاؤُكَ
 ۲۔ ذَلِكَ السَّيَّارَةُ السَّرِيحَةُ فَبِقَدِّهِ وَهَذِهِ السَّيَّارَةُ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |

1411-12 1991

December

IMPORTANT

عزنی میں ترجمہ

۱۔ هَذَا تَلْمِيذُكَ وَهَذَا تَلْمِيذُكَ

۲۔ تَلْمِيذُكَ هَذَا تَلْمِيذُكَ

۳۔ وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ هَذَا صَارَ لَكَ

۴۔ وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ أَمَّا الْجِنَايَةُ

۵۔ تَلْمِيذَةُ أَمَّا رَسِيهِ هَذِهِ السَّالِحَةُ دَرَجَةُ

۶۔ دَرَجَةُ الْمُعَلِّمِ تِلْكَ سِرِّيَّتُهُ

7 28/J. Awal SATURDAY

7 29/J. Awal SUNDAY

۸۔ يَا عِبْدَ اللَّهِ قَدْ مَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَانْطَلِقْ

۹۔ تَلْمِيذُكَ تِلْكَ أَمْرُ رَسِيهِ الذَّكِيُّ قَاعِدُ أَمَّا

المشيد

۱۰۔ هَذَا رَجُلٌ صَارَ لَكَ وَذَلِكَ فَامِشَانِ

۱۱۔ قُلْ هَذِهِ كَسْبُكَ

۱۲۔ هَذَا بَابُ الْغُرْفَةِ وَذَلِكَ بَابُ الْبَيْتَانِ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |

1411-12

1991

اسے ایمان واجب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کفار کی پکار کر تو جگہ کفارہ کرو یا کرو اللہ جس میں کفار کی پکارے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ انھیں چاکو کاٹھ چایا کرو۔ (پارہ ۲۸ سورہ المائد آیت ۱۱)

December

اسماء استنبیہ

IMPORTANT

NOTE-1: اسماء استنبیہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن کے معنی ہیں
 اے اللہ! اور اے اللہ! اور اے اللہ! اور اے اللہ! اور اے اللہ!
 اس کے معنی ہیں اے اللہ! اور اے اللہ! اور اے اللہ!
 اس کے معنی ہیں اے اللہ! اور اے اللہ! اور اے اللہ!
 اس کے معنی ہیں اے اللہ! اور اے اللہ! اور اے اللہ!

30/J. Awal MONDAY

10 1/J. Sani TUESDAY

اسماء استنبیہ
 کون کون کون
 کون کون کون
 کون کون کون
 کون کون کون

NOTE-3: اسماء استنبیہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن کے معنی ہیں اے اللہ! اور اے اللہ! اور اے اللہ!

December

IMPORTANT

NOTE-4: اجماع ائمہ (فقہاء) اب منسوخ ہے۔
 میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی فقہ نے اس کا عمل

مثال: ما خلا ما ذکرنا فیہ اور تھوڑا سا غلطی ہے

من الخواتم ستر باء کون ہے
 این اقوات شکر بھائی کیاں ہے

NOTE-5: اجماع ائمہ فقہاء اب منسوخ ہے۔
 میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی فقہ نے اس کا عمل

مثال: کتاب میں سے کسی کتاب

11 2/J. Sani WEDNESDAY

12 3/J. Sani THURSDAY 13 4/J. Sani FRIDAY

بیاں کتاب صحیفہ اور منی صحیفہ الیہ
 اسی اور اللہ عظیم سے

NOTE-6: میں اور بعد وائے اسم سے ملے
 کتاب الیہ بتائے عینی لکھو کہ تا وہ لکھ
 again and carefully

مثال: اسی رجل کو بنا کر

اللہ انشاء و توفیق

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |

1411-12

1991

